

# كُتُوبُ الْمُنَاجَاةِ الْغَرِيْبِ

سنة ١٤٤٧هـ

## دَعْوَتُكَ رَبِّي فَأَنْتَ النَّصِيرُ

مناجاةٌ صنَّفها

الدَّاعِي الْأَجَلُّ الْفَاطِمِيُّ

سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا أَبُو خُزَيْمَةَ طَاهِرٌ فَخْرُ الدِّينِ ط

سنة ١٤٤٧هـ

مِصْبَاحُ فُبُوضِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

٣٣٥      ٧٥      ٨٩٦      ١٤١

١٤٤٧ هـ

كِنُوزُ الْمَنَاجَاةِ الْغَرِيْبِ

سَنَةِ ١٤٤٧ هـ

بَرَكَتُ خَيْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

٣٣٥      ٧٥      ٨١٠      ٢٢٧

١٤٤٧ هـ

المناجاة الشريفة

# دَعْوَتُكَ رَبِّي فَأَنْتَ النَّصِيرُ

صَنَّفَهَا

الدَّاعِي الْأَجَلُّ الْفَاطِمِيُّ

سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا أَبُو خُزَيْمَةَ طَاهِرٌ نَفَرِ الدِّينِ ط

في ليلة القدر

سنة ١٤٤٧ هـ

**Published by the Office of the 54th Dai al-Mutlaq His Holiness Syedna Taher Fakhruddin TUS**

Darus Sakina

Pokhran Rd. No. 1, Upvan, Thane (W) 400 606

Ramadan al-Mo'azzam 1447H

March 2026

© [FatemiDawat.com](http://FatemiDawat.com)

# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱. دَعْوَتُكَ رَبِّيْ فَانْتَ النَّصِيْرُ  
وَيَا مَنْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

میں تارا نزدیک دعاء کروں چھوں، اے مارا رب، تو مدد اے یاری دینار چھے،  
تو ہر چیز پر قادر چھے،

I pray to you, my Lord, you are the one who gives aid —  
O you who are powerful over all things.

۲. وَاَنْتَ الْعَلِيْمُ وَاَنْتَ الْحَكِيْمُ  
وَاَنْتَ الرَّحِيْمُ وَاَنْتَ الْخَبِيْرُ

تو علیم چھے - ہر چیز جاننار چھے، تو حکیم چھے - حکمت تارا نزدیک چھے،  
تو رحیم چھے - رحمت کرنار چھے، تو خبیر چھے - تنے ہر چیز نو تجربہ چھے،

You are the all-knowing, you are the all-wise,  
you are the most merciful, you are the most aware.

۳. وَأَنْتَ الْحَلِيمُ وَأَنْتَ الْكَرِيمُ  
وَأَنْتَ السَّمِيعُ وَأَنْتَ الْبَصِيرُ

تو حلیم چھے - غصہ نہی کرتو، تو کریم چھے - مہربانی کرے چھے،  
تو سمیع چھے - ہر چیز سننا چھے، تو بصیر چھے - ہر چیز دیکھنا چھے،

You are the most forbearing, you are the most generous,  
you are the all-hearing, you are the all-seeing.

۴. وَأَنْتَ غِيَاثِي وَأَنْتَ مَلَاذِي  
عَلَيْكَ اتِّكَلِي وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

تو مارو آسرو چھے، تو مارو سہارو چھے،  
مارو توکل اے بہروسو تارا اوپر چھے، تارے طرف مارو وٹو چھے،

You are my rescuer, you are my refuge,  
in you I place my trust, towards you is my journey.

۵. وَإِنَّكَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ  
وَإِنَّكَ كَهْفِي وَنِعْمَ الْمُجِيرُ

تو مارا واسطے کفایہ کری اپنا چھے، تو سنبھالنا چھے،  
تو مارو کہف اے آسرو چھے، تو نگہبان چھے،

You are my custodian and the best guardian.  
You are my shelter and the best protector.

٦. أَنَا عَبْدُكَ الْقِنُّ أَنْتَ إِلَهِي  
أَنَا الْمُسْتَعِينُ وَأَنْتَ النَّصِيرُ

میں تارو ادنی بندہ چہوں، تو مارو رب چہے،

میں یاری مانگار چہوں، تو یاری دینار چہے،

I am your humble servant, and you are my Creator.

I am a seeker of aid, and you are my helper.

٧. أَتَيْتُكَ مُسْتَغْفِرًا نَادِمًا  
فَعَفَوَا إِلَهِي فَذَنْبِي كَبِيرٌ

میں تارا نزدیک استغفار کرتو اے پستاؤ کرتو آیو چہوں،

تو منے معاف کرے، اے مارا رب، مارا گناہ گہنا مہوتا چہے،

I come to you repentant and remorseful —

pardon me, Allah, for my sin is enormous.

٨. أَتَيْتُكَ فَاعْفِرْ ذُنُوبِي وَاسْتُرْ  
عُيُوبِي فَجْرُمُ خَطَائِي كَثِيرٌ

میں تارا در پر آیو چہوں، مارا گناہو معاف کرے،

مارا عیب نے پردہ کرے، ماری خطاؤ تو گہنی چہے،

I come to you — forgive my sins and conceal my faults,

for my errors are many.

۹. قَرَعْتُ بِأَيْدِي الرَّجَاءِ عَلَى بَابِ  
بِكَ الطُّهْرِ يَا رَبِّ إِنِّي فَقِيرٌ

میں امیدو نا ہاتھو سی تارا پاک دروازہ پر دستک دؤں چھوں،  
اے مارا رب، میں تارا نزدیک فقیر چھوں،

I knock on your pure door with hands of hope.  
My Lord, I am a beggar before You.

۱۰. اِلٰهِي افْتَحِ الْبَابَ فَضْلًا وَمَنًّا  
وَهَبْ لِي سُؤْلِي وَمَا فِي الضَّمِيرِ

اے پروردگار، تارا فضل و کرم سی دروازہ کھولی دے،  
میں جہ مانگوں چھوں، انے جہ امید دل ما چھے، سگلو آپی دے،

Allah, open the door with your grace and bounty.  
Grant me what I ask, and even what is in my heart.

۱۱. تَفَضَّلْ عَلَيَّ بِمَوْهَبَةٍ  
فَانِي امْرُؤٌ مُسْتَكِينٌ حَقِيرٌ

تارا فضل و کرم سی منے تاري بخشش آپی دے،  
میں خضوع خشوع کروں چھوں، تارو بندو حقیر چھوں،

Bestow upon me a gift from your generosity,  
for I am a humbled and needy servant.

۱۲. وَهَبْ لِي رِزْقًا وَأَمْطِرْ عَلَيَّ نَجْدِي  
مِنَ الْبَرَكَاتِ بِغَيْمِ مَطِيرٍ

انے منے روزي سي نوازي دے،  
تاري برکات نا وادلو مارا اوپر ورساوي دے،  
Grant me provisions,  
let the rainclouds of your blessings pour down on me.

۱۳. وَمُنَّ عَلَيَّ وَوَفَّرَ عَطَايَا  
كَ يَا رَبَّنَا بِالنَّوَالِ الْغَزِيرِ

انے مارا اوپر کرم کر، انے اے مارا رب،  
تاري عطایا، تاري نعمتو منے گھنی انے گھنی بخشي دے،  
Be generous to me, Lord,  
and grant me your favors and abundant bounties.

۱۴. وَخَفِّفْ ثِقَالَ لِدَيْنِي وَاقْ  
صِهِ أَنْتَ لِي مَلْجَأٌ وَظَهِيرٌ

انے مارو دین آداء کري آچھے، اھنو بوج ھلکو کري ديچھے،  
مارو آسرو تو چھے، مارو سھارو تو چھے،  
Lighten my burden of debts, discharge them for me,  
you are my refuge and support.

۱۵. وَزِدْنِي عَلَى نِعْمَةٍ نِعْمَةً  
فَإِنِّي عَبْدُكَ دَاعٍ طَاهِرٍ

اے منے ایک بعد ایک نعمت سی زیادہ نوازجے،  
میں تارو بندہ چھوں، تارو داعی طاهر چھوں،

Grant me blessing upon blessing,  
I am your servant and Da'i, Taher.

۱۶. وَسَكِّنْ لِي مِنْ رُوعِي  
صُرُوفِ الزَّمَانِ وَذَوْقِ الْمَرِيرِ

اے زمانا نی پریشانی، اہنی کرواس سی، اے پروردگار،  
تو مارا دل نے سکون آجھے،

Calm my heart, injured by fate's ordeals,  
and fed with bitter-tasting fruits.

۱۷. وَبَدِّلْ لِي الْعُسْرَ بِالْمَنْ يَسِّرًا  
وَذَلِكَ رَبِّي لَدَيْكَ يَسِيرٌ

اے تارا فضل و کرم سی ماری دھلائی نے سہلائی ما بدلی دیجے،  
اے پروردگار، تارا واسطے یہ کرووں آسان چھے،

Through your grace, replace hardship with ease,  
for you that is effortless.

۱۸. اَلِهِي اِرْحَمْنِي وَاَنْتَ لِرَحْمَةٍ  
عَبْدِكَ هَذَا الضَّعِيفِ جَدِيرٌ

اے پروردگار، تو منے رحمة کر،  
سازوار چھے کہ تارا ضعیف بندہ نے تو رحمة کرے،

Have mercy on me, and bless me, Allah,  
for this servant is weak and needy.

۱۹. تَوَلَّ اِلَهِي حِفْظِي مِنْ  
كُرُوبٍ وَبَاسٍ اَلْبَلَاءِ اَلْقَمَطَرِيْرِ

اے پروردگار، تو منے حفاظة کر،  
ھر مصیبة سی، ھر بلا نی گھٹا انے پریشانی سی،

Protect me from grief  
and calamities and distressful trials.

۲۰. قِنِي رَبِّ مِنْ كَيْدٍ مَنْ يَبْتَغِي اَلْ  
فَسَادَ وَمَنْ شَرُّهُ مُسْتَطِيرٌ

اے پروردگار، ھر فساد کرنا، انے شر کرنا  
انے پہلاؤنار سی، تو منے بچاؤجے،

Guard me from the plots of  
chaos-mongers and evil-spreaders.

۲۱. وَهَبْ لِي نَصْرًا وَهَبْ لِي فَتْحًا  
وَأَلْقِ عَدُوَّ الْهُدَى فِي السَّعِيرِ

تو منے نصر عزیز، یاری آجیے، تو منے فتح مبین، ظفریابی آجیے،  
انے دعوة نا دشمنو نے تو آگ ما نا کھجے،

Grant me aid, and grant me victory,  
cast into the fire the enemy of faith.

۲۲. وَأَعْدَاءَ دِينِكَ أَهْلِكُمْ  
وَأَنْتَ لَهُمْ رَبٌّ مُّضِيٌّ مُّبِيرٌ

تارا دین نا دشمنو نے هلاك كړي ديچے،  
اے پروردگار تو یہ سگلا نے ختم کرنا چھے، فناء کرنا چھے،

Destroy the enemies of your religion,  
you are their slayer and annihilator.

۲۳. وَصُنِّيْٓ اَيَّا رَبِّ مِنْ كُلِّ مَا  
يَكِيدُ عَدُوِّيْ فَهُوَ شَرِيْرٌ

انے اے رب، مارا دشمن نا کید انے مکر سی ماری حفاظة کرچے،  
یہ دشمن شریر چھے، بدتر چھے،

Protect me from my enemy's scheming,  
he is wicked and evil.

٢٤. أَقْرَّ عِيُونِي فِي الْأَهْلِ وَالْ  
بَنِينَ السَّرَى وَكَذَا فِي الْعَشِيرِ

مارا اهل ما، مارا فرزندو ما، انے ماري قراۃ انے محبة نا لوگو ما،  
يه سگلا ما ماري آنکھو نے تهندي کرجه،

Grant delight to my eyes through my noble children,  
my family, my household.

٢٥. وَصَيِّرْنِي اللَّهُ مِمَّنْ بِفَضْلِ  
كَ مِنْ ضَوْءِ شَمْسِ الْهُدَى يَسْتَنِيرِ

اے پروردگار، تارا فضل و کرم سي تو منے وه لوگو تهکي کرجه،  
جه هداية نا سورج نا نور سي پر نور تهائي، روشني لے،

By your grace, place me among those,  
who seek illumination from the sun of guidance (the Imam).

٢٦. وَفِي بَدَنِي أَعْطِنِي صِحَّةً  
وَجَبِّئَنِي اللَّهُ حَرَّ الْهَجِيرِ

مارا بدن ما منے صحة عطاء کرجه،  
منے تپتي گرمي سي بجاؤجه،

Grant me good health, Allah,  
protect my body from the burning heat.

۲۷. وَأَشْرِكُ بَنِي دَعْوَتِي فِي دُعَائِي  
وَكُلَّهُمْ اجْعَلْ لِحَيْرٍ يَخِيرُ

ماری دعوت نا فرزندو نے ماری دعاء ما بہاگیدار کرے ،  
یہ سگلا نے خیر نے اختیار کرنا کرے ،

Include the children of my Da'wat in my prayer,  
have them choose the righteous path.

۲۸. وَوَفِّقْهُمْ لَوْفَا الْبَيْعَةِ  
الَّتِي أَخَذَ الْمُصْطَفَى فِي الْغَدِيرِ

سگلا نے توفیق آجیے کہ وہ بیعت نے وفاء کرے ،  
کہ جہ بیعت نبی مصطفیٰ یہ غدیر ما لیدو ،

And guide them to fulfil the pledge  
that Nabi Mustafa took at Ghadeer.

۲۹. بِمَنْكَ قَدْ زُرْتُ رَأْسَ الْحُسَيْنِ  
بِمَرْقَدِهِ دَائِمًا أَسْتَجِيرُ

تارا فضل و کرم سی میں یہ مصر ما رأس الحسین نی زیارة کیڈی ،  
آپنی قبر مبارک پر میں ہمیشہ آسرو لؤوں چھوں ،

By your grace, I have visited Rasul Husain.  
I seek refuge always at his shrine.

۳۰. فَكَيْفَ بِشُكْرِكَ إِنِّي مَا  
قَضَيْتُ مِنْ الشُّكْرِ عَشْرَ العَشِيرِ

تارو شکر کیم تہی سکے؟  
شکر نو سومو حصہ بہی میں آداء تہی کری سکتو،

How can I ever thank you?  
When even a tenth of a tenth of the dues of gratitude cannot be fulfilled!

۳۱. اِلٰہِیْ اَجْعَلْنِیْ مِمَّنْ اَتٰی  
لَہٗ عِنْدَ وَقْتِ الْفِرَاقِ الْبَشِیْرِ

اے پروردگار، منے وہ لوگو تہی کرے،  
جہ نے موت نا وقت مبشر، خوش خبر آپنار، آوی نے ودھامنی آپے،

Allah, place me among those who are visited at death  
by the Giver-of-Good-News, Basheer.

۳۲. اَعِدْنِیْ مِمَّنْ لَہٗ عِنْدَ وَقْتِ الْاٰ  
حِمَامِ اَتٰی مُنْکَرٌ مَّعَ نَکِیْرٍ

منے وہ لوگو سی پناہ کرے،  
جہ نے موت نا وقت منکر نکیر آوے، بد خبر، کپاؤنار خبر، آپنار آوے،

Do not place me among those who are visited at death  
by the Bringers-of-Bad-News, Munkar and Nakeer.

۳۳. وَفُكَّ رِقَابِي مِنْ ذِي الْهَيْوَلَى  
فَاتِي فِيهَا طَرِيدٌ أَسِيرٌ

ماری گردن نے آھیولی نا قید خانہ سی آزاد کرے  
جہ هیولی ما میں گرو هئو چھوں، قیدی چھوں،

Release my neck from the chains of physicality.  
I am an exile, a captive, in this material world.

۳۴. اِلٰهِي اجْعَلِّي مِمَّنْ جَعَلْتَ  
لَهُ فِي الْجَنَانِ لِبَاسَ الْحَرِيرِ

اے پروردگار، تو منے وه لوگو تهکی کرے،  
جہ نا واسطے تو یہ جنہ ما ریشم نا کپرا تیار کیدا چھے،

Allah, place me among those  
who are clothed in Paradise with silk.

۳۵. وَالْحَقْنِي اللَّهُ بِالصَّالِحِينَ  
لَأَسِيرَ الدِّينِ بِسِيرَتِهِمْ

اے اللہ، تو منے صالحین، نیک لوگو ساتھے (جنہ ما) لاحق کرے،  
یہ صالحین نی سیرہ پر میں ہمیشہ چلو چھوں،

Reunite me (in paradise), Allah,  
with the righteous whose path I follow.

۳۶. بِحُرْمَةِ مَنْ جَاءَ خَيْرَ الْبَشِيرِ  
وَمَنْ هُوَ صِنُّ لَهُ وَوَزِيرُ

محمد ني حرمة سي، جه سگلا بشاره اپنار انبياء نا خير چھے، سردار چھے،  
انے علي ني حرمة سي، جه اپنا بهائي انے وزير چھے،

By the sanctity of the best of prophets,  
and his brother and vizier:

۳۷. أَبُو قَاسِمٍ وَأَبُو حَسَنِ  
كِلَا الْقَمَرَيْنِ السَّمَاءِ يُنِيرُ

یہ کون چھے کہ ابو القاسم محمد انے ابو الحسن علي،  
سورج انے چندرما، جه آسمان نے روشن کرے چھے،

Muhammad and Ali,  
sun and moon lighting the heavens!

۳۸. بِفَاطِمَةَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَنْ  
لَهَا لَا مِرَاءَ مَقَامَ خَطِيرِ

مولاتنا فاطمة ني حرمة سي، جه ليلة القدر چھے،  
جه نو مقام - بے شك - گھنو عظیم چھے،

By Fatema, Laylat-ul-Qadr,  
exalted in rank and honor.

۳۹. بِالْهِمِ الطُّهْرِ مِنْ كُلِّ مَوْلى  
لِأَهْلِ الْوَلَاةِ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ

آپ سگلا نی پاک آل نی حرمة سی،  
کہ جہ ہر ایک مولی امیر المؤمنین چھے،

By their pure descendants,  
each Maula, Amir-ul-Mumineen.

۴۰. بِوَارِثِهِمْ طَيِّبِ الْعَصْرِ مَنْ مَجَّ  
دُهُ قَدْ سَمَى مِنْ عَلَى الزَّمْهِرِ

یہ سگلا نا وارث طیب العصر، امام الزمان نی حرمة سی،  
کہ جہ نو مجد چاند کرتا بہی بلند چھے،

By their heir, Tayyib of the Age,  
whose glory is loftier than the moon.

۴۱. هُوَ الْحَقُّ وَالْحَقُّ إِنِّي أَقُولُ  
لِمَوْلَايَ مَا فِي الْوَرَى مِنْ نَظِيرِ

یہ امام حق چھے، انے میں حق نی وات کروں چھوں،  
کہ دنیا ما مارا مولی نا ہم مثل کوئی تہی،

He is embodied Truth, and I say,  
in truth, that he has no equal in this world.

٤٢. بِنُؤَائِهِمْ كُلِّ دَاعٍ أَتَى فِي  
يَدِ ابْنِ الْوَصِيِّ كَسَيْفٍ شَهِيرٍ

يه سگلا نا نائبو دعاة مطلقين ني حرمة سي،  
هر ايك داعي وصي نا شهزاده امام نا هاتہ ما تلوار ني مثل چھے،

By their vicegerents,  
each Da'i a sword drawn in the hand of Ali's son.

٤٣. بَوَارِثِهِمْ قُطْبِ الدِّينِ مَنْ وَجَّهَ  
مِنْهُ كَانَ يَزْهُو كَبَدْرٍ مُنِيرٍ

يه سگلا نا وارث قطب الدين مولیٰ ني حرمة سي،  
جه نو چھرو پونم نا چندرما ني مثل چمکتو تہو،

By their heir, Syedna Qutbuddin,  
whose radiant face shone like the moon.

٤٤. أَنَا الْعَبْدُ عَبْدُكَ مَمْلُوكُ آلِ الْاَلِ  
نَبِيِّ الرَّضَىٰ وَبِهِمْ مُسْتَنِيرٌ

میں تارو ادنیٰ بندہ چھوں،  
آل محمد نو غلام چھوں، يه سگلا نا نور سي روشني لؤو چھوں،

I am your humble servant, Allah, and servant of Aale Muhammad,  
seeker of their light.

٤٥. بِصَاحِبِ عَصْرِي مُسْتَنْصِرٍ  
وَمِنْ فَيْضِهِ دَائِمًا مُسْتَمِيرٍ


صاحب العصر، امام الزمان سي ميں نصر اے ياري لينار چھوں،  
آپني تآيد اے فيض نے هميشه طلب کروں چھوں،

I seek victory through Imam-uz-Zaman,  
and I seek enlightenment through his inspiration.

٤٦. اِلٰهِي صَلِّ وَسَلِّمْ وَكَرِّمْ  
عَلَى آلِ طهَ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ

اے پروردگار، تو طه نبی نی آل پر صلوات اے سلام پر بھیجے، جہ نبی بشیر چھے -  
جنہ نی ودھامنی آپے چھے، نذیر چھے - عذاب سی دراؤنار چھے،

Allah, shower salawaat and salaam on the descendants of Taha Nabi,  
the one who warns (of punishment) and gives glad tidings (of Paradise).



© FatemiDawat.com

